



جو شخص یہ دعا پڑھے: **أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ** (میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے اور میں اسی سے توبہ کرتا ہوں) اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اگرچہ وہ میدان جہاد سے فرار کیوں نہ ہوا ہو

رسول اللہ ﷺ کے آزاد کردہ غلام زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص یہ دعا پڑھے: **أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ** (میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے اور میں اسی سے توبہ کرتا ہوں) اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اگرچہ وہ میدان جہاد سے فرار کیوں نہ ہوا ہو [صحیح] [اسلم امام ترمذی نے روایت کیا ہے - اسلم امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے]

جو شخص یہ دعا پڑھے: **أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ** اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ کفار کے ساتھ جنگ سے فرار کیوں نہ ہوا ہو واضح رہے کہ معرکہ جہاد سے بھاگنا ان سات ہلاک کر دینے والی اشیا میں سے ہے، جن کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے: **”سات ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو؛ ان میں سے ایک میدان جہاد سے بھاگنا ہے“** اس لیے زیر بحث حدیث کا معنی اس وقت درست ہو گا، جب مفلحوم یہ ہو کہ وہ تمام گناہوں سے تائب ہو جائے، جن میں سے ایک میدان جنگ سے بھاگنا ہے ورنہ گناہ پر قائم رہنے سے صرف استغفار کرنا کچھ بھی سود مند نہیں ہو سکتا اس کا فائدہ تو تب ہوتا ہے، جب اس کے ساتھ ساتھ گناہ سے توبہ بھی ہو

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/10576>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

